

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

## لفظ ”صلاة“ کا لغوی معنی اور شرعی مفہوم

”صلاة کا لغوی معنی:

عربی لغت میں لفظ ”صلاة“ ☆ کے معنی دُعا کے ہیں، اور اسی معنی میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد حق ہے:

﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ (۱)

ترجمہ: ”آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لیجیے، (تاکہ) آپ اس کے ذریعہ سے انہیں پاک کریں، اور ان کا تزکیہ کریں۔ اور ان کے حق میں دُعا فرمائیں، بلاشبہ آپ کی دعا ان کے لیے موجب تسکین ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔“

آیت کریمہ میں لفظ ”وَصَلِّ عَلَيْهِمْ“ کا معنی یہ ہے کہ اے (اللہ کے رسول ﷺ) ”اور آپ ان کے لیے دُعا فرمائیں“۔ اسی طرح ایک حدیث مبارک میں آپ ﷺ ارشاد فرماتے ہیں: (إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجِبْ، فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ) (۲)

☆ ”صلاة“ خالص عربی لغت کا لفظ ہے، جب کہ اردو اور فارسی زبان میں اس کا ترجمہ لفظ ”نماز“ سے کیا جاتا ہے، مؤلف - حفظہ اللہ۔ چونکہ یہاں پر اس لفظ (صلاة) کا لغوی معنی اصطلاحی تعریف بیان کر رہے ہیں، اس لیے مناسب یہی سمجھا گیا کہ یہاں پر اس کا ترجمہ نہ کیا جائے، بلکہ اسے اپنی اصلیت پر ہی رکھا جائے، البتہ آگے ہم اس کا ترجمہ لفظ ”نماز“ سے ہی کریں گے۔ (مترجم)

(۱) سورة التوبة، آیت: ۱۰۳۔

(۲) صحیح مسلم، کتاب النکاح، باب الأمر بإجابة الداعي إلى الدعوة.

ترجمہ: ”جب تم میں سے کسی کو دعوت دی جائے، تو اسے قبول کر لے، اگر روزے سے ہے تو (صاحب خانہ کے لیے) دُعا کرے، اور اگر مفطر (بغیر روزہ) ہے تو کھائے۔“  
 حدیث میں وارد لفظ ”فَلْيُصَلِّ“ کا معنی ہے کہ (اور وہ روزے سے ہے) تو پھر برکت اور خیر و مغفرت کی دعا کرے (۱)۔

اور جب ”صلاة“ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ”مدح و ثناء“ بیان فرماتا ہے، اور جب اس کی نسبت فرشتوں کی طرف ہو، تو مطلب یہ ہے کہ فرشتے ”دُعا“ کرتے ہیں۔  
 فرمان باری تعالیٰ ہے: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ (۲)

ترجمہ: ”بلاشبہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی (ﷺ) پر درود و صلاة بھیجتے ہیں، اے ایمان والو! تم بھی ان پر درود بھیجو، اور خوب سلام بھیجو“

ابوالعالیہ کہتے ہیں کہ: ”صَلَاةُ اللَّهِ ثَنَاؤُهُ عَلَيْهِ عِنْدَ الْمَلَائِكَةِ، وَصَلَاةُ الْمَلَائِكَةِ الدُّعَاءُ“  
 یعنی اللہ تعالیٰ کا نبی ﷺ پر درود و صلاة بھیجنے سے مراد یہ ہے کہ وہ آپ ﷺ کے لیے (بلندی درجات اور رحمت) کی دُعا کرتے ہیں۔

(۱) دیکھیں: کتاب ”النهاية في غريب الحديث“ / علامہ ابن الأثير، باب الصاد مع اللام. کتاب ”لسان العرب“ / ابن منظور، باب اللام، فصل الصاد. کتاب ”التعريفات“ / علی بن محمد الجرجاني. کتاب ”المغني“ / ابن قدامة. کتاب ”العمدة“ / شيخ الاسلام ابن تيمية.  
 (۲) سورة الأحزاب، آیت: ۵۶.

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ (آیت کریمہ میں) لفظ ”يَصَلُّونَ“ ”يُسْرُكُونَ“ (۱) کے معنی میں ہے، یعنی وہ (فرشتے) برکت کی دُعا کرتے ہیں۔

اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ”صلاة“ بھیجنے کا معنی ”رحمت“ اور ملائکہ کے صلاة بھیجنے کا مطلب استغفار (طلب مغفرت) ہے، لیکن صحیح قول ہی ہے، (۲) اور اس کے صحیح ہونے کی دلیل یہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ (مصائب پر صبر کرنے والے بندوں کے بارے میں) فرماتے ہیں: ﴿أُولَٰئِكَ

عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ﴾ (۳)

یعنی ”ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف ”صلاة“، یعنی ثناء و تعریف اور ”رحمت“ ہے (۴)۔

آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ”صلوات“ اور پھر واو عطف کے بعد ”رحمتہ“ کو ذکر کیا، اور جب رحمت کو صلاة پر معطوف کر دیا، تو ثابت ہو کہ ”صلاة“ ایک الگ چیز ہے، اور رحمت دوسری چیز، کیونکہ عطف مغایرہ (یعنی اختلاف معنی و جنس) کا متقاضی ہے (۵)

(۱) امام بخاری نے ابوالعالیہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کے ان دونوں اقوال کو اپنی صحیح میں کتاب التفسیر، میں تفسیر سورة الأحزاب میں

باب قولہ: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴾ کے تحت صیغہ جزم کے ساتھ حدیث: ۴۷۹۷ سے قبل تعلیقا ذکر کیا ہے۔

(۲) دیکھیں تفسیر ابن کثیر، تفسیر سورة الأحزاب، آیت: ۵۶۔ اور ”الشرح الممتع“، تالیف شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ:

۲۲۸/۳-۲۲۹

(۳) سورة البقرة، آیت: ۱۵۷۔

(۴) تفسیر ابن کثیر، تفسیر سورة البقرة، آیت: ۱۵۷۔

(۵) الشرح الممتع / تالیف: ابن عثیمین ۲۲۸/۳۔ اور یہی معنی میں نے الروض المربع ۳۵/۲ کی شرح بیان کرتے

ہوئے امام عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ سے بھی سنا۔

غرض اللہ تعالیٰ کی طرف سے ”صلاة“ بھیجنے کا مطلب مدح و ثناء بیان کرنا ہے، جب کہ مخلوقات: یعنی ملائکہ اور جن و انس کے درود پڑھنے کا مطلب قیام، رکوع، سجود، دُعا اور تسبیح بیان کرنا ہے۔ اور اگر اس کی نسبت پرندوں اور کیڑے مکوڑوں کی طرف ہو، تو اس اس سے بھی مراد تسبیح بیان کرنا ہی ہے (۱)۔

### صلاة کا شرعی مفہوم:

شرعی اصطلاح میں لفظ ”صلاة“ ایک مخصوص طریقے پر اللہ تعالیٰ کے لیے انجام دی جانے والی اس عبادت کا نام ہے، جو مخصوص و معلوم افعال اور اقوال پر مشتمل ہوتی ہے، اور اس کا آغاز بکبیر تحریمہ سے ہوتا ہے، اور اختتام سلام پھیرنے سے۔ اور اس عبادت کا نام ”صلاة“ اسی لیے رکھا گیا ہے، کیونکہ یہ دُعا پر مشتمل ہوتی ہے (۲)۔ غرض۔ عربی لغت میں۔ ہر قسم کی دُعا کو کہا جاتا تھا، اور پھر یہی لفظ ایک مخصوص نوعیت کی دُعا یعنی نماز کا نام قرار پایا۔ یا یہ کہیں کہ لفظ ”صلاة“ ہر قسم کی دُعا کو کہا جاتا تھا، اور پھر یہ لفظ مخصوص شرعی عبادت (یعنی نماز) کے معنی میں منتقل ہوا۔ اور وہ اس لیے، کیونکہ لفظ ”صلاة“ اور دُعا میں باہمی مناسبت پائی جاتی ہے، اور دونوں الفاظ (معنوی لحاظ سے) ایک دوسرے سے متقارب (ملتے جلتے) ہیں، اس لیے شریعت میں جب بھی لفظ ”صلاة“ مطلقاً استعمال کیا جائے، تو اس سے (عام دُعا نہیں بلکہ) مخصوص نوعیت کی شرعی عبادت یعنی نماز ہی مراد لی جائے گی (۳)۔

(۱) دیکھیں: لسان العرب / ابن منظور، باب الیاء، فصل الصاد، ۴/۱۴، ۲۶۵۔

(۲) دیکھیں: المغنی / ابن قدامة، ۵/۳، الشرح الكبير، ۵/۳، الإنصاف في معرفة الراجح من

الخلافا، ۵/۳، التعريفات / الجرجاني، ص: ۱۷۴۔

(۳) دیکھیں: شرح العمدة / شيخ الإسلام ابن تيمية، ۲/۳۰، ۳۱۔



نماز پوری کی پوری دُعا ہی ہے، (اور چونکہ دعا دو طرح کی ہوتی ہے)

(الف) دُعائے مسئلہ: دُعائے مسئلہ یہ ہے کہ بندہ اپنے رب سبحانہ و تعالیٰ سے بزبانِ قائل اپنی حاجات و ضروریات مانگے، یا اور کوئی ایسا سوال کرے جس سے اسے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا ہو، یا کسی نقصان سے نجات مطلوب ہو۔

(ب) دُعائے عبادت: اور دعائے عبادت یہ ہے کہ بندہ نیک اعمال مثلاً: قیام و قعود اور رکوع و سجود کر کے اجر و ثواب حاصل کرتا ہے۔ اس لیے جو شخص بھی اس قسم کی عبادت سرانجام دیتا ہے گویا کہ وہ اپنے پروردگار سے دُعا کرتا ہے، اور بزبانِ حال اس سے مغفرت اور عفو و درگزر کا سوال کرتا ہے۔ غرض دُعائے اقسام کی اس توضیح سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، کہ نماز ساری کی ساری دعائے مسئلہ اور دعائے عبادت ہے، کیونکہ اس میں بندہ مختلف افعال سرانجام دے کر بزبانِ حال، اور مختلف دعائیں مانگ کر بزبانِ قائل اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے (۱)۔

اسلام میں نماز کا حکم:

نماز ہر عاقل و بالغ مسلمان پر واجب (فرض) ہے ☆

(۱) دیکھیں مؤلف کی ایک دوسری کتاب بعنوان: شروط الدعاء و مواعظ الاجلیہ، صفحہ: ۱۰-۱۱۔ مزید دیکھیں: فتح المجید شرح کتاب التوحید للشیخ محمد بن صالح العثیمین: ۱/۱۱۷، اور یہی معنی میں نے امام ابن باز رحمہ اللہ سے کتاب ”الروض المرعی“ کی شرح کرتے ہوئے سنا ہے، دیکھیں: ۱/۲۱۰۔

(☆) بالغ، عاقل اور مسلمان ہونا نماز کی فرضیت کے لیے بنیادی شروط ہیں۔ اس لیے اگر کوئی شخص فاقدِ عقل (دیوانہ) ہے تو اس پر نماز واجب نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص مسلمان نہیں ہے تو، اس پر بھی نماز واجب نہیں، بلکہ اگر وہ نماز پڑھ بھی لیتا ہے تو اسکی نماز =

اور یہ وجوب (فرضیت) قرآن کریم، سنت مطہرہ اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ البتہ وہ خواتین اس سے مستثنیٰ ہیں جو حیض یا نفاس کی حالت میں ہوں۔

### قرآن کریم کے دلائل:

قرآن کریم میں نماز کی فرضیت کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد عالی ہے: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ﴾ (۱) ترجمہ: ”اور انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا، کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کریں، اسی کے لیے بندگی خالص کرتے ہوئے، (اور) یکسو ہو کر، اور نماز کو قائم کریں، اور زکوٰۃ دیں، اور یہی ہے دین سیدھی ملت کا“۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا﴾ (۲) ترجمہ: ”یقیناً نماز مومنوں پر مقررہ اوقات پر فرض ہے“۔

### سنت مطہرہ کے دلائل:

سنت مطہرہ میں نماز کی فرضیت کی دلیل حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی وہ (معروف) حدیث ہے

=قبول ہی نہیں ہوگی، لیکن اگر کوئی نابالغ بچہ نماز پڑھ لیتا ہے، اگرچہ وہ نماز کی فرضیت سے مستثنیٰ ہے، لیکن اس کی نماز صحیح ہے، بلکہ جو والدین اپنی اولاد کو بچپن ہی سے اس عظیم عبادت کا عادی بنانے کے لیے انہیں نماز پڑھنے پر حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اور ایمانی تربیت کرتے ہوئے انہیں نماز اور روزہ جیسی عبادات انجام دینے کی محبت سے تاکید کرتے ہیں، تو انہیں اس کا اجر و ثواب ضرور ملے گا، بلکہ ایسے ہی بچوں کی نیک دعائیں انہیں مرنے کے بعد بھی کام آئیں گی۔ ان شاء اللہ

(۱) سورة البينة، آیت: ۵.

(۲) سورة النساء، آیت: ۱۰۳.

کہ جب انہیں نبی ﷺ نے یمن کی طرف (داعی اور مبلغ دین اور حاکم بنا کر بھیجتے وقت فرمایا تھا: **فَاعْلَمْتُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ حَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ**) (۱) ترجمہ: ”تو پھر (اس کے بعد) انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر دن اور رات میں پانچ نمازیں فرض کر دی ہیں“ ☆

(۱) سنن أبوداؤد، کتاب الصلاة، باب فیمن لم یوتر. اس حدیث کو البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے، دیکھیں سنن ابی داؤد، تحقیق شیخ ناصر الدین الألبانی رحمہ اللہ.

☆ یہ حدیث معروف صحابی حضرت عبداللہ بن عباس (رضی اللہ عنہما) سے مروی ہے، اور مؤلف حفظہ اللہ نے یہاں اسی کے ایک جزء کو اسلام میں نماز کی فرضیت پر بطور دلیل ذکر کیا ہے، جب کہ مکمل حدیث کا ترجمہ پیش خدمت ہے: ”حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب نبی ﷺ نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف (داعی و حاکم) بنا کر بھیجا، تو آپ ﷺ نے ان سے فرمایا: تم ایک ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو، جو اہل کتاب ہیں، اس لیے جب تم ان کے پاس پہنچو گے تو انہیں ”لا اِلهَ اِلاَّ اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ“ کی طرف دعوت دو، اور جب وہ تمہاری یہ بات مان لیں تو انہیں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر (روزانہ) دن اور رات میں پانچ نمازیں فرض کر دی ہیں، اور جب وہ تمہاری یہ بات بھی مان لیں، تو پھر انہیں یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر زکاۃ دینا فرض قرار دیا ہے، جو ان کے مال داروں سے لی جائے گی، اور (وہیں پر) ان کے غرباء و فقراء پر خرچ کی جائے گی، پھر جب وہ اس بات کو بھی تسلیم کر لیں، تو پھر خبردار! ان کے اچھے اچھے اموال (ہی کو زکاۃ کے لیے نکالنے) سے بچو، اور (ہاں) مظلوم کی دُعا (آہ) سے ڈرو، کیونکہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔“ حدیث پر غور کریں، کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو سب سے پہلے توحید اور رسالت پر ایمان کی طرف دعوت دینے کی تعلیم دی جا رہی ہے، کیونکہ عقیدہ اصل الاصول ہے، اور توحید کی طرف سب سے پہلے دعوت دینا تمام انبیاء و رسل علیہم السلام کا منج رہا ہے، اور خود نبی ﷺ نے بھی (قولوا لا اِلهَ اِلاَّ اللهُ تَسْلِحُوا) کی ندادے کر اپنی دعوت کا آغاز توحید ہی سے فرمایا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی اسی کلمہ سے افراد و اقوام کو دعوت دینے کی وصیت فرمائی (مترجم)۔

اور عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا: (بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَصِيَامِ رَمَضَانَ ، وَحَجِّ الْبَيْتِ لِمَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) (۱)

”اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے، ایک تو یہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد (ﷺ) اللہ تعالیٰ کے رسول (پیغمبر) ہیں، اور نماز قائم کرنا، اور زکاۃ دینا، اور (ماہ) رمضان کے روزے رکھنا، اور حج بیت اللہ ادا کرنا، اس کے لیے جسے وہاں تک پہنچنے کی طاقت حاصل ہو۔“

اسی طرح ایک اور حدیث میں حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: (خَمْسٌ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ ، فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ لَمْ يَضَعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِسِحْقِهِنَّ ، كَانَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ..... الحديث (۲)

ترجمہ: ”پانچ نمازیں ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے بندوں پر فرض کیا ہے، تو جس شخص نے انہیں ادا کیا، اور ان کے حق میں ناقدری کرتے ہوئے ان میں سے کچھ ضائع نہ کیا، تو اس کے لیے اللہ کے ذمے یہ عہد ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔“

(۱) متفق علیہ: صحیح البخاری، کتاب الإیمان، باب دُعاؤکم إیمانکم، وصحیح مسلم، کتاب الإیمان، باب بیان أركان الإسلام.

(۲) سنن أبو داود، کتاب الصلاة، باب فیمن لم یوتر، اس حدیث کو شیخ البانی رحمہ نے صحیح کہا ہے، دیکھیں: صحیح سنن ابی داود، تحقیق شیخ محمد ناصر الدین الالبانی رحمہ اللہ۔

غرض نماز کے وجوب اور اس کی فرضیت بہت زیادہ قرآنی آیات اور احادیث طیبہ موجود ہیں۔

### اجماع امت:

اس بات پر پوری امت کا اجماع (اتفاق) ہے، کہ بندے پردن و رات میں پانچ نمازیں پڑھنا فرض ہیں (۱)۔

لیکن جیسا کہ ہم نے پہلے بھی اس طرف اشارہ کیا کہ۔ حیض اور نفاس والی خواتین پر نماز فرض نہیں ہے، یعنی وہ فرضیت کے اس حکم سے مستثنیٰ ہیں، کیونکہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے: **الْيَسْتُ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تَصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ** (۲) ☆۔

ترجمہ: ”۔۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ عورت جب حائضہ ہو جاتی ہے، تو وہ (حالت حیض) میں نہ نماز پڑھ سکتی ہے، اور نہ روزہ رکھ سکتی ہے“۔



(۱) کتاب ”المغنی“ ابن قدامة: ۶/۳۔

(۲) صحیح البخاری، کتاب الحيض، باب ترك الحائض الصوم، بروایت أبو سعيد الخدري رضی اللہ عنہ، و عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہم أجمعین۔ اور صحیح مسلم میں یہ الفاظ وارد ہیں: **(وَتَمَكُّثُ اللَّيَالِي مَا تَصَلِّي، وَتُفْطِرُ رَمَضَانَ فَهَذَا نَقْصَانُ الدِّينِ)** یعنی ”..... اور وہ کئی ایام (مہینے میں) حیض کی وجہ سے نماز سے رکی رہتی ہے، اور رمضان کے روزے نہیں رکھتی، اور یہی دین میں اس کی کمی ہے“ دیکھیں صحیح مسلم، کتاب الایمان۔

☆ یعنی اللہ تعالیٰ نے بنات آدم پر اپنا فضل و احسان فرماتے ہوئے حیض و نفاس کے ایام میں ان کے لیے نماز کو بالکل ہی معاف فرما دیا ہے، اور یہ بات بھی واضح رہے کہ حیض و نفاس کی حالت میں نماز پڑھنا عورت کے لیے بالکل جائز ہی نہیں ہے، اور نہ ہی بعد میں ان نمازوں کو قضا کر کے پڑھنا ہے، اسی طرح حالت حیض و نفاس میں عورت روزہ بھی نہیں رکھ سکتی، البتہ بعد میں فرض =

## اسلام میں نماز کی قدر و منزلت

نماز کو اسلام میں ایک عظیم مقام اور انتہائی بلند مرتبہ حاصل ہے۔ چنانچہ جو دلائل اس کی عظمت و بلندی کو ثابت کر رہی ہیں، ان میں سے چند پیش خدمت ہیں:-

(۱) نماز دین کا وہ ستون ہے، کہ جس کے بغیر اس کی عمارت قائم ہی نہیں رہ سکتی، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: (رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ، وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ، وَذُرْوَةُ سِنَامِهِ الْجِهَادُ) (۱)۔

ترجمہ: ”اس امر (دین) کا سر اسلام ہے، اور اس کا ستون نماز اور اس کی کوہان کی چوٹی جہاد ہے۔“ اور ظاہر ہے کہ اگر ستون ہی گر جائے، تو اس پر قائم کی گئی عمارت خود بخود گر جائیگی۔

(۲) نماز ہی وہ عمل ہے کہ جس کے بارے میں (روز قیامت) بندے سے سب سے پہلے باز پرس ہوگی، اور تمام اعمال و عبادات کی درستی اور بہتری کا دار و مدار نماز کی بہتری پر ہی ہوگا۔ لیکن اگر نماز میں کسی قسم کا بگاڑ یا فساد پایا جائے، تو بندے کے دوسرے اعمال بھی بگڑ جائیں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: (أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الصَّلَاةُ، فَإِنْ صَلَحَتْ صَلَحَ سَائِرُ عَمَلِهِ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ)

= روزوں کی قضا ضروری ہے (مترجم)۔

(۱) سنن ترمذی، کتاب الإیمان، ماجاء فی حرمة الصلاة، اور امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن صحیح کہا ہے، سنن ابن ماجہ: کتاب الفتن، باب کف اللسان فی الفتنة، مسند الامام احمد: ۲۳۱/۵، اور امام ناصر الدین الالبانی رحمہ اللہ نے کتاب ”ارواء الغلیل میں اسے ”حسن“ قرار دیا ہے۔ دیکھیں: ارواء الغلیل: ۱۳۸/۲۔

ترجمہ: ”قیامت کے روز بندے کا محاسبہ سب سے پہلے نماز پر ہوگا، پس اگر نماز (کا معاملہ) بگڑ گیا، تو سارے اعمال بگڑ جائیں گے۔“

ایک اور روایت میں یہ الفاظ وارد ہیں: (أَوَّلُ مَا يُسْأَلُ عَنْهُ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُنْظَرُ فِي صَلَاتِهِ ، فَإِنْ صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ) یعنی ”قیامت کے روز بندے سے سب سے پہلے جس بارے میں پوچھا جائے گا، (وہ نماز ہے) اس کی نماز کی طرف دیکھا جائے گا، پس اگر اس کی نماز (کا معاملہ رب کے ساتھ) صحیح اور بہتر ہے، تو وہ پھر کامیاب ہو گیا۔“ اور ایک روایت میں (وَأَنْجَحَ) کا لفظ آیا ہے، یعنی (فَإِنْ صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ (أَوْ أَنْجَحَ) ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ) (۱) یعنی ”اگر اس کی نماز صحیح ہے، تو وہ پھر کامیاب و کامران ہو گیا، اور اگر نماز کا معاملہ بگڑ گیا، تو پھر نا کام و نامراد ہو گیا۔“ اسی طرح حضرت تمیم الداری رضی اللہ عنہم فرموا روایت کرتے ہیں: آپ ﷺ نے فرمایا: (أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَلَاتُهُ، فَإِنْ كَانَ أَتَمَّهَا كُتِبَتْ لَهُ تَامَةٌ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَتَمَّهَا قَالَ اللَّهُ . عَزَّ وَجَلَّ . لِمَلَائِكَتِهِ : انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع فتكمّلون بها فريضة ، ثم الزكاة كذلك ، ثم تؤخذ الأعمال حسب ذلك) (۲)

(۱) امام طبرانی نے اس حدیث کو ”الأوسط“ میں ذکر کیا ہے، دیکھیں: ۴۰۹/۱، (مجمع البحرین) نمبر ۵۳۳۔ علامہ البانی رحمہ اللہ اپنی کتاب ”سلسلة الأحادیث الصحيحة“ میں فرماتے ہیں کہ یہ حدیث تمام دوسری اسناد و شواہد کی بناء پر اجمالا صحیح کے درجہ تک پہنچ جاتی ہے۔ واللہ اعلم، دیکھیں: (۳۴۶/۳)

(۲) سنن أبو داود، کتاب الصلاة، باب قول النبي ﷺ : كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوعه، سنن ابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في أول ما يحاسب به العبد الصلاة ، مسند الإمام

ترجمہ: ”قیامت کے روز بندے سے جس چیز کا سب سے پہلے حساب لیا جائے گا، وہ (فرض) نماز ہے، پس اگر اس نے نمازیں پوری پڑھی ہوں گی، تو وہ پوری لکھی جائیں گی، لیکن اگر پوری نہ پڑھی ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرمائے گا: دیکھو! کیا (نامہ اعمال میں) میرے بندے کے کوئی نفل بھی ہیں؟ (اگر ہے) تو اس سے ان کے فرضوں کی کمی پورا کر دو، پھر اسی طرح اس کی زکاۃ کو دیکھا جائے گا، پھر اس کے بعد اسی طرح دوسرے فرض اعمال کا حساب ہوگا۔“

(۳)۔ نماز ہی وہ منفرد عبادت ہے، جو دنیا سے بالکل آخر میں ختم ہوگی، اور ظاہر ہے کہ جب ایک باقی رہ جانے والی عبادت بھی مفقود ہو جائے گی، تو گویا کہ پورے کا پورا دین ختم ہو جائے گا، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہم فرموا (رسول اللہ ﷺ سے) روایت کرتے ہیں: (لَتَنْقُضَنَّ عَمْرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةَ عُرْوَةً، فَكَلِمَا انْتَقَضَتْ عُرْوَةٌ تَشْبِثُ النَّاسَ بِالتِّي تَلِيهَا فَاوْلَاهُنْ نَقْضًا الْحَكْمَ وَ آخِرَ هِنَ الصَّلَاةِ) (۱) ترجمہ: ”تحقیق کہ اسلام کے کڑے ایک ایک کر کے توڑ دیے جائیں گے، پس جب ایک کڑا ٹوٹ جائے گا، تو لوگ اس کے بعد دوسرے کڑے پر ٹوٹ پڑیں گے، چنانچہ اسلام کا سب سے پہلا کڑا جو ٹوٹ جائے گا، وہ حکم ہوگا، اور آخری ٹوٹنے والا کڑا ”نماز“ ہوگا۔“ ایک اور دوسری سند سے مروی روایت کے الفاظ اس طرح ہیں:

(أَوَّلُ مَا يُرْفَعُ مِنَ النَّاسِ الْأَمَانَةُ، وَ آخِرُ مَا يَبْقَى الصَّلَاةُ، وَ رَبُّ مُصَلٍّ لَا خَيْرَ فِيهِ) (۲)

(۱) مسند الإمام أحمد: ۵/۲۵۱، اس حدیث کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے ”صحیح الترغیب والترہیب“ میں صحیح قرار دیا ہے۔ دیکھیں: ۲۲۹/۱۔

(۲) اس حدیث کو امام طبرانی نے ”الصغیر“ [مجمع البحرین] میں ذکر کیا، دیکھیں ۷/۲۶۳۔



ترجمہ: ”لوگوں سے جو چیز سب سے پہلے اٹھائی جائے گی، وہ امانت ہوگی، اور جو چیز آخر تک باقی رہے گی، وہ نماز ہوگی، اور کچھ نمازی ایسے بھی ہوں گے، جن میں کوئی بھلائی (خیر) نہیں ہوگی۔“

(۴)۔ نماز ہی وہ عظیم ترین عبادت ہے، جس کے بارے میں نبی ﷺ نے آخری وقت پر (دنیا سے آخرت کی طرف انتقال کے وقت) اپنی امت کو وصیت فرمائی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا روایت کرتے ہوئے فرماتی ہیں، کہ رسول اللہ ﷺ کی آخری وصیت یہ تھی: (الصَّلَاةُ الصَّلَاةُ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) یعنی ”نماز؛ نماز! اور جو لوگ تمہارے ماتحت ہیں، (یعنی غلام اور لونڈیاں)۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا مزید بیان کرتی ہیں کہ: (حَتَّى جَعَلَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ يُلْجِلُ جِهَافِي صَدْرِهِ وَمَا يَفِيضُ بِهَا لِسَانَهُ) (۱) یعنی ”یہاں تک کہ نبی کے سینہ مبارک میں یہ وصیت کی باتیں اگلنے لگیں، لیکن (شدت مرض کی وجہ سے) آپ زبان سے بول نہیں پارہے تھے۔“

(۵)۔ نماز وہ بلند و برتر عبادت ہے، کہ جسے قائم کرنے والے لوگوں کی مدح و تعریف خود اللہ تعالیٰ نے

نمبر ۴۲۵، (معروف) محقق شیخ عبدالقدوس بن محمد نذیر نے اسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ضعیف کہا ہے، لیکن اس حدیث کا ایک دوسرے شاہد ہے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اور اکھیم الترمذی اسے ان الفاظ کے ساتھ روایت کرتے ہیں: (أول ما يرفع من الناس الأمانة، وآخر ما يبقى من دينهم الصلاة، ورب مصل لا خلاق له عند الله) یعنی ”سب سے پہلے لوگوں سے امانت اٹھالی جائے گی، اور ان کے دین میں آخر تک باقی رہنے والی چیز نماز ہوگی، اور کچھ نمازی ایسے بھی ہوں گے کہ جن کا اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی حصہ (اجر و ثواب) نہ ہوگا۔“ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح الجامع میں ذکر کیا ہے اور اسے حسن قرار دیا ہے۔

(۲) مسند أحمد: ۶/۲۹۰، ۳۱۱، ۳۲۱، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے إرواء الغلیل میں صحیح

قرار دیا ہے، دیکھیں: ۲۳۸/۷۔

فرمائی ہے، اور ان لوگوں کی مدح و تعریف بھی فرمائی، جو اپنے اہل و عیال کو بھی نماز قائم کرنے کا حکم دیتے ہیں، ارشاد ربانی ہے: ﴿وَ اذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِسْمَاعِيْلَ اِنَّهٗ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَ كَانَ رَسُوْلًا نَّبِيًّا . وَ كَانَ يَأْمُرُ اَهْلَهٗ بِالصَّلٰوةِ وَ الزَّكٰوةِ وَ كَانَ عِنْدَ رَبِّهٖ مَرْضِيًّا﴾ (۱)

ترجمہ: ”اور آپ اس کتاب میں اسماعیل کا ذکر کریں، وہ تو بڑا ہی وعدے کا سچا تھا، اور وہ رسول اور نبی بھی تھا، وہ (برابر) اپنے گھر والوں کو نماز اور زکاۃ کا حکم دیتا تھا، اور وہ اپنے رب کے نزدیک نہایت ہی پسندیدہ تھا۔“

(۶)۔ نماز وہ عبادت ہے، کہ جسے ضائع کرنے والے، یا اس میں کاہلی اور سستی برتنے والے لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے مذمت فرمائی ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿فَخَلَفَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ

اَضَاعُوا الصَّلٰوةَ وَ اتَّبَعُوا الشَّهْوٰتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غِيًّا﴾ (۲)

ترجمہ: ”پھر ایسے ناخلف (برے) لوگ ان کے جانشین ہوئے، کہ انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، اور نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ گئے، پس عنقریب انہیں ہلاکت اور تباہی کا سامنا ہوگا۔“

اور ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا: ﴿اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَ هُوَ خٰدِعُهُمْ وَاِذَا قَامُوْا اِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كَسٰلٰى يُرْآءُوْنَ النَّاسَ وَ لَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيْلًا﴾ (۱) ترجمہ: ”بلاشبہ منافقین اللہ تعالیٰ کو فریب دیتے ہیں، اور وہ (اللہ تعالیٰ) بھی انہیں فریب دینے والا ہے، (یعنی اس

(۱) سورة مریم، آیات: ۵۴، ۵۵.

(۲) سورة مریم، آیت: ۵۹.

(۳) سورة النساء، آیت: ۱۴۲.

فریب کاری کا انہیں بدلہ دینے والا ہے)، اور جب وہ نماز کو کھڑے ہوتے ہیں، تو بڑی کاہلی کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں، صرف لوگوں کو دکھلاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو بہت ہی کم (یونہی برائے نام) یاد کرتے ہیں۔“

(۷)۔ نماز ہی کلمہ شہادت کے بعد اسلام کے بنیادی ارکان میں سے سب سے بڑا رکن ہے، اور دین کی عمارت کا سب سے عظیم ستون ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نبی ﷺ اللہ سے روایت کرتے ہیں، کہ آپ ﷺ نے فرمایا: (بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ، شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ، وَحَجِّ الْبَيْتِ) (۱) ترجمہ: ”اسلام کی بنیاد پانچ ارکان پر رکھی گئی ہے، ایک تو یہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود (برحق) نہیں ہے، اور محمد (ﷺ) اللہ کے رسول (پیغمبر) ہیں، دوسرا قائم کرنا، تیسرا زکاۃ دینا، چوتھا رمضان کا روزہ رکھنا، اور پانچواں بیت اللہ کا حج کرنا۔“

(۸)۔ نماز کی شان و عظمت کو اجاگر کرنے والے دلائل میں سے اہم دلیل یہ بھی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اسے (دوسرے احکام و عبادات کی طرح) جبریل امین علیہ السلام کے ذریعہ (بذریعہ وحی) فرض نہیں قرار دیا، بلکہ اسے بغیر کسی واسطہ یا ذریعہ کے اسراء و معراج کی شب میں ساتوں آسمانوں کے اوپر سے اہل زمین پر فرض قرار دیا۔

(۹)۔ نماز کی امتیازی شان اس امر سے بھی ظاہر ہوتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں امت پر پچاس

متفق علیہ، صحیح البخاری، کتاب الإیمان، باب قول النبی ﷺ: (بني الإسلام على خمس). صحیح

مسلم، کتاب الإیمان، باب أركان الإسلام ودعائمه العظام.

نماز میں فرض کر دی تھیں، اور اس عدد کی فرضیت ہی ظاہر کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نماز سے کتنی محبت اور کس قدر پیار ہے، (اگرچہ) اللہ تعالیٰ نے بعد میں اپنے بندوں پر رحم اور کرم نوازی فرما کر۔ اس کی تعداد میں تخفیف کر دی، اور دن رات میں پچاس کے بجائے صرف پانچ نمازیں فرض قرار دیں۔

اور اس میں نماز کی رفعت و عظمت کا ایک اور پہلو یہ بھی ہے، کہ اگرچہ ادائیگی اور فرضیت کے اعتبار سے صرف پانچ نمازیں مقرر ہوئیں، لیکن میزان حسنات میں اجر و ثواب اعتبار سے یہ مکمل پچاس نمازوں کے برابر ہیں (۱)

(۱۰)۔ نماز کی قدر و منزلت کی تاکید اس امر سے بھی اجاگر ہوتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کامیاب و کامران بندوں کے اعمال و اوصاف کا جب تذکرہ فرمایا، تو ان کے (ان اوصاف و اعمال کے ذکر کی) ابتداء بھی نماز سے ہی فرمائی، اور اختتام بھی نماز ہی سے فرمایا، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ . الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ . وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ . وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ . وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ . إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ . فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ . وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ . وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ

(۱) متفق علیہ بروایت حضرت انس رضی اللہ عنہ : صحیح البخاری، کتاب التوحید، باب ما جاء فی قوله عز وجل : ﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا﴾ . صحیح مسلم، کتاب الإیمان، باب الإسراء برسول الله ﷺ وفرض الصلوات.

صَلُّوا تِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿١﴾

ترجمہ: ”یقیناً اہل ایمان کا میاب و کامران ہو گئے، جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، اور جو لغویات (بے کار اور بے سود کلام سے اعراض کرتے ہیں، اور جو زکاۃ ادا کرنے والے لوگ ہیں، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، الا اپنی بیویوں اور لونڈیوں کے، کیونکہ وہ ملامت زدہ نہیں ہیں، پس جو شخص ان کے سوا (اور کوئی راستہ) تلاش کرے، تو یہی لوگ زیادتی (حد سے تجاوز) کرنے والے لوگ ہیں، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کی حفاظت کرنے والے ہیں۔“

(۱۱) نماز ہی وہ عظیم عمل ہے، کہ جس کی بابت اللہ تعالیٰ نے اپنے عظیم پیغمبر حضرت محمد ﷺ اور آپ کے تبعین کو حکم فرمایا، کہ وہ اپنے اہل و عیال کو اس کا حکم کریں، ارشاد اللہ جل شانہ ہے: ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى﴾ (۲)

ترجمہ: ”اور اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیجیے، اور خود بھی اس پر ثابت رہیے، ہم آپ سے (اس پر) رزق کا سوال نہیں کرتے، بلکہ ہم ہی آپ کو روزی دیتے ہیں، اور (بہترین) انجام تقویٰ (والوں) ہی کا ہے۔“ اور حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نبی ﷺ سے روایت کرتے ہیں، کہ آپ ﷺ نے فرمایا: (مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَأَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ) (۳)

(۱) سورة المؤمنون، الآيات: ۱-۹.

(۲) سورة طه، آیت: ۱۳۲.

(۳) سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة. مسند أحمد: ۲/۱۸۰، ۱۸۷، امام =

ترجمہ: ”اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو، جب وہ سات سال کے ہو جائیں، اور ان کے بستر جدا کر دو“۔  
 (۱۲)۔ نماز کی اہمیت اس امر سے اور زیادہ مؤکد ہو جاتی ہے، کہ اس کی قضاء کا حکم ہر اس شخص کو دیا گیا، جو نیند یا نسیان کی وجہ سے (وقت پر) اسے نہ پڑھ سکا ہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہ نبی ﷺ نے فرمایا: (مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ)

ترجمہ: جو شخص نماز پڑھنا بھول جائے، تو اسے چاہیے کہ جو نبی سے یاد آئے تو پڑھ لے، اور یہی اس کا کفارہ ہے (یعنی یاد آنے پر پڑھ لینا ہی اس نسیان کا کفارہ ہے)  
 اور صحیح مسلم میں مروی روایت میں یہ الفاظ وارد ہیں: (مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا) (۱)

”جو شخص نماز پڑھنا بھول جائے، یا نماز سے سو جائے، تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب یاد آئے تو اسے پڑھ لے“ نیند کی وجہ سے وقت پر نماز نہ پڑھنے والے کے حکم میں وہ شخص بھی ہے، جس پر تین دن یا تین دن سے کم مدت تک غشی طاری رہے، یہ قول حضرت عمار، عمران بن حصین اور سرہ بن جندب رضی اللہ عنہم (۲) سے منقول ہے، لیکن اگر یہ مدت تین دن سے تجاوز کر جاتی ہے، تو پھر اس شخص پر فوت شدہ

= ناصر الدین الألبانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو کتاب ”إرواء الغلیل“ میں صحیح کہا ہے، دیکھیں: ۷۲/۷، ۲۶۶۔

(۱) متفق علیہ، صحیح البخاری، کتاب مواقیب الصلاة، باب من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها.

صحیح مسلم، کتاب المساجد و مواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها.

(۲) دیکھیں: الشرح الكبير / ابن قدامة: ۸/۳ - المغني، ۵۰/۳ - ۵۲.

تو پھر اس شخص پر فوت شدہ نمازوں کی قضاء نہیں ہے، کیونکہ جس شخص پر تین ایام سے زیادہ غشی طاری رہتی ہے تو وہ مجنون کے حکم میں ہے، کیونکہ دونوں اشخاص میں زوال عقل کی صفت قدر مشترک ہے، اس لیے دونوں پر مفقود العقل کا حکم منطبق ہوگا۔ واللہ اعلم (۱)

## اسلام میں نماز کی امتیازی خصوصیات (۲)

اسلام ہی نماز کی شان بڑی نمایاں اور انتہائی عظیم ہے، جس کی وجہ سے اسے تمام اعمال صالحہ میں ایک انفرادی مقام حاصل ہے، بہت سے امور و احکام ہیں جن کی وجہ سے نماز کو انفرادیت اور امتیاز حاصل ہے، جن میں سے چند امور یہ ہیں:

(۱) نماز کو اللہ تعالیٰ نے لفظ ”ایمان“ کے نام سے موسوم فرمایا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ (۳)  
ترجمہ: ”اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہ فرمائے گا، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا شفیق اور نہایت ہی مہربان ہے۔“

آیت کریمہ میں لفظ ”ایمان“ سے مراد وہ نمازیں ہیں، جو (کعبہ کی طرف تحویل قبلہ کے حکم سے قبل) صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بیت المقدس کی طرف قبلہ رو ہو کر ادا فرمائی تھیں، اور نماز کو ایمان اسی لیے

(۱) دیکھیں: مجموع فتاویٰ سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمع وترتيب از

ڈاکٹر عبد الله الطيار، وأحمد بن عبد العزيز بن باز: ۲/۴۵۷.

(۲) شرح العمدة/ الإمام ابن تيمية: ۲/۸۷-۹۱.

(۳) سورة البقرة، آیت: ۱۴۳.

کہا، کیونکہ یہ بندے کے قول و عمل کی تصدیق کرتی ہے۔

(۳)۔ نماز ہی وہ عمل ہے، کہ جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے (مختلف مقامات پر) خصوصیت کے ساتھ اس لیے فرمایا، تاکہ دوسرے اسلامی احکام و شعائر میں اس کی امتیازی خصوصیت واضح ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿اَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ﴾ (۱)

ترجمہ: ”اور جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی، اس کی تلاوت کیجئے“

آیت کریمہ میں جو تلاوت وحی کا حکم دیا جا رہا ہے، اس سے مراد ان تمام دینی احکام و شرائع پر عمل کرنا ہے، جو اس وحی (قرآن کریم) میں موجود ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس حکم عام میں نماز قائم کرنا بھی شامل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس حکم عام کے ساتھ ہی: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ﴾ (یعنی: اور نماز قائم فرما) کا خصوصی حکم فرما کر اس کی امتیازی شان کو اجاگر فرما دیا۔

اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد فرمایا: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا غُلَبِينَ﴾ (۱)

ترجمہ: ”اور ہم نے ان کی طرف نیک کام کرنے اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وحی کی، اور وہ ہمارے عبادت گزار بندے تھے“۔

آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ان کی طرف نیک اعمال انجام دینے کی وحی کرنے کا تذکرہ فرمایا، اور نماز بھی تمام نیک اعمال میں ایک نیک عمل شمار ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ﴿فِعْلَ الْخَيْرَاتِ﴾ کے بعد ﴿وَأَقَامَ الصَّلَاةَ﴾ کا ذکر خاص کر کے اس کے امتیاز کو واضح فرمایا۔



اس طرح قرآن کریم میں اور بھی بہت سے مقامات ہیں، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے دوسرے احکام و اعمال کا تذکرہ خاص فرما کر اس کی شان و عظمت اور انفرادیت کو اجاگر فرمایا ہے۔

(۳)۔ نماز کی عظمت اور اس کی شان رفیع کا یہ حال ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر اس کا تذکرہ بہت سی عبادات ساتھ (ایک جگہ ملا کر) فرمایا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّكْعِينَ﴾ (۱) ترجمہ: ”اور نماز قائم کرو، اور زکاۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو“۔

ایک اور جگہ فرمایا: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ (۲)

ترجمہ: ”پس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں، اور قربانی کریں“۔

ایک اور جگہ اسلام ارشاد فرمایا: ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (۲)

ترجمہ: ”اور آپ فرمادیجیے کہ یقیناً میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا (سب خالص) اللہ رب العالمین کے لیے ہے“۔

(۴)۔ نماز ہی وہ عمل ہے، کہ جس پر جے رہنے اور پابندی اختیار کرنے کا حکم اللہ رب العزت نے اپنے حبیب خاص نبی اکرم ﷺ کو (خصوصیت کے ساتھ) فرمایا، ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَأْمُرْ

(۱) سورة البقرة، آیت: ۴۳.

(۲) سورة الأنعام، آیت: ۱۶۲.

أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ ﴿١﴾

ترجمہ: ”اور اپنے اہل و عیال کو نماز پڑھنے کا حکم کیجیے، اور خود بھی اس پر ثابت رہیے، ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے، بلکہ ہم ہی آپ کو رزق عطا کرتے ہیں۔“

حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ کو تمام عبادات پر اصطبار (ثابت قدم اور جمے رہنے) کا حکم دیا

گیا ہے، جیسا کہ فرمان الہی ہے: ﴿فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ﴾ (۲)

یعنی آپ اس (اللہ) کی بندگی کریں، اور اس کی (ہر قسم کی) عبادت پر جم جائیں۔“

لیکن (سورہ طہ) آیت کریمہ میں تخصیص کے ساتھ نماز پر ہی آپ ﷺ کو جمے رہنے کے حکم سے نماز کی اہمیت اور اس کی انفرادی خصوصیت بیان کرنا مقصود ہے۔

(۵)۔ نماز کی ایک اور انفرادی خصوصیت یہ بھی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ہر حال میں (اپنے مکلف

بندوں پر) واجب قرار دیا ہے، اور اس میں کسی بیمار، یا خوفزدہ یا مسافر یا کسی اور مشکل میں پھنسے ہوئے

شخص کو معذور نہیں گردانا گیا، البتہ (بعض مخصوص ظروف و احوال میں) کبھی اسکی شروط، کبھی اس کی

(رکعات کی) تعداد، اور کبھی اس کے افعال میں تخفیف کا وقوع ثابت ہے ☆۔

(۱) سورة طه، آیت: ۱۳۲۔

(۲) سورة مريم، آیت: ۶۵۔

☆ شروط میں تخفیف: مثلاً نماز کی صحت کے لیے اکی شرط ”طہارت“ کا حصول بھی ہے، یعنی بغیر طہارت (وضوء) کے نماز صحیح نہیں ہوتی، لیکن اگر کوئی شخص اس قدر بیمار ہے کہ پانی ہی استعمال نہیں کر سکتا، تو شریعت نے اس شخص کے لیے ”تیمم“ مشروع قرار دیا ہے۔

تعداد میں تخفیف: مثلاً اگر کوئی شخص حالت سفر میں ہے، تو اس کے لیے اجازت بلکہ سنت یہ ہے کہ وہ چار رکعات والی نماز (ظہر، =

لیکن جب تک بندے کی عقل کام کر رہی ہے، اور اسے کسی قسم کا جنون یا فتور لاحق نہیں، اس سے کسی حال میں نماز کی فرضیت ساقط نہیں ہوتی ہے۔

(۶)۔ نماز کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی صحت کو کامل طور پر حصول طہارت، زینت لباس اور استقبال قبلہ کی شرطوں سے مشروط فرمایا، اور یہ ایسی شرطیں ہیں، کہ جن کا بیک وقت پایا جانا کسی اور عبادت کے لیے ثابت نہیں ہے۔

(۷)۔ نماز ہی وہ عبادت ہے، کہ جس کو انجام دیتے وقت انسان کے تمام اعضاء، جیسے: دل، زبان اور جسم کے دوسرے جوارح استعمال ہوتے ہیں، جب کہ ایسا کسی دوسری عبادت میں نہیں ہوتا۔

(۸)۔ نماز وہ عبادت ہے، کہ جس کو انجام دینے لے دوران کسی اور چیز میں مشغول ہو جانے منع کیا گیا ہے، حتیٰ کہ دل میں اٹھنے والے خیالات، کلام اور دوسرے امور میں سوچنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔

(۹)۔ نماز اللہ تعالیٰ کا وہ دین ہے، جسے ادا کرنے کے پابند آسمان اور زمین والے سبھی ہیں، اور یہ تمام انبیاء علیہم السلام کی شریعتوں کی کنجی (بنیادی شیعہ) ہے، چنانچہ ہر نبی کو حکم ساتھ مبعوث فرمایا گیا، یعنی کوئی نبی ایسا نہیں گزرا ہے، جس کی شریعت میں نماز نہ ہو۔

عصر، عشاء) کو دو دورکعات ہی پڑھ لے، یہ حکم فرائض سے متعلق ہے، جب کہ سنت بالکل معاف ہی ہے۔  
افعال میں تخفیف: مثلاً قیام، رکوع، سجود، شہد وغیرہ نماز کے افعال ہیں، لیکن اگر کوئی شخص معذور ہے، یا کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ اس کے لیے شریعت میں یہ سہولت موجود ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھ لے، اگر نہیں تو ٹیک لگا کر پڑھ لے، اور اگر ایسا بھی نہیں کر سکتا ہے تو وہ اشاروں سے اپنی نماز ادا کر سکتا ہے۔ وھکذا (واللہ اعلم)

نوٹ: مذکورہ مسائل کی مزید وضاحت و تفصیلات کے لیے نماز سے متعلق کسی مستقل اور مفصل کتاب کی طرف رجوع کریں۔ (مترجم)

(۱۰)۔ ایک خصوصیت نماز کی یہ بھی ہے، کہ اسے ”تصدیق“ کے ساتھ ایک جگہ بیان کیا گیا ہے، ارشاد

تعالیٰ ہے: ﴿فَلَا صَدَقَ وَلَا صَلَّى . وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى﴾ (۱)

ترجمہ: ”پس اس نے نہ تو تصدیق کی، اور نہ ہی نماز پڑھی، لیکن (اس کے برعکس) اس نے جھٹلایا اور روگردانی کی“۔

الغرض اسلام میں نماز کی امتیازی خصوصیات بہت ہی زیادہ ہیں، اور اسے کسی دوسری (عبادت یا شعیرہ اسلام) پر قیاس نہیں کیا جاسکتا (۲)

☆.....☆.....☆.....☆.....☆.....☆

## بے نمازی کا حکم

فرض نماز نماز کا چھوڑنا کفر ہے، اور جو شخص اسے اس کی فرضیت اور وجوب کا انکار کرتے ہوئے چھوڑ دیتا ہے، تو اہل علم (علمائے امت) کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ایسا شخص کفر اکبر کا مرتکب ہو جاتا ہے، خواہ وہ نماز پڑھ ہی لیتا ہو، لیکن نماز کی فرضیت کے انکار کی وجہ سے وہ پھر بھی کافر ہی ہے (۳)۔

اور جو شخص کلی طور پر نماز چھوڑتا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ اعتقاد بھی رکھتا ہے کہ نماز واجب ہے، اور اس کی

(۱) سورة القيامة، آیت: ۳۱، ۳۲۔

(۲) دیکھیں: شرح العمدة / شيخ الإسلام ابن تيمية: ۳/ ۸۷-۹۱، الشرح الممتع / العلامة محمد بن صالح العثيمين: ۲/ ۸۷۔

(۳) دیکھیں: تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام / علامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز ص: ۷۳۔

فرضیت کا انکار نہیں کرتا، تو وہ بھی کفر کا ارتکاب ہی کرتا ہے۔ اور اہل علم کے اقوال میں سے صحیح ترین قول یہی ہے کہ اس کا یہ کفر بھی کفر اکبر ہی ہے، جو اسے اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ اور اس قول کے صحت پر بہت سارے دلائل ہیں، جن میں سے ہم چند کو اختصار کے ساتھ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں۔

(۱)۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ . خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرَاهُمْ ذَلَّةً وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَلِيمُونَ﴾ (۱)

ترجمہ: ”جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی، اور وہ لوگ سجدے کے لیے بلائے جائیں گے، تو وہ (سجدہ) نہ کر سکیں گے، ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی، اور رسوائی ان پر چھا رہی ہوگی، حالانکہ اس وقت بھی سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا، جب کہ وہ بالکل صحیح سالم تھے“ (یعنی جب وہ دنیا میں صحت مند اور تندرست تھے، انہیں اس وقت بھی سجدہ کرنے (نماز پڑھنے) کی دعوت دی جاتی تھی، مگر وہ نماز نہیں پڑھتے تھے)

(۲)۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ . إِلَّا أَصْحَابَ

الْيَمِينِ . فِي جَنَّةٍ يَتَسَاءَلُونَ . عَنِ الْمُجْرِمِينَ . مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ . قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمَصْلُومِينَ . وَلَمْ نَكُ نَطْعُمُ الْمُسْكِينِ . وَكُنَّا نَحْوُضُ مَعَ الْخَائِضِينَ .

وَكُنَّا نَكْذِبُ يَوْمَ الدِّينِ ﴿١﴾

ترجمہ: ”ہر شخص اپنی کمائی (اپنے اعمال) کے بدلے گروی ہے، مگر دائیں ہاتھ والے، وہ جنتوں میں باہم سوال کرتے ہوں گے، مجرموں کی بابت، کہ تمہیں سقر (جہنم) میں کس چیز نے ڈال دیا، تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے، اور نہ ہم مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے، اور ہم بس بحث و مباحثہ کرنے والوں کے ساتھ بحث و مباحثہ میں مشغول رہا کرتے تھے، اور ہم روز جزاء (یوم قیامت) کو جھٹلاتے تھے۔“

ان آیات کریمہ سے یہ بات واضح ہے کہ تارکین نماز سقر میں ڈال دیے جانے والے مجرموں میں سے ہوں گے، اور مجرموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس ارشاد پر بھی غور کریں، فرمایا: ﴿إِنَّ الْمُجْرِمِينَ

فِي ضَلَالٍ وَسُعْرٍ . يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ﴾ (۲)

ترجمہ: ”بلاشبہ مجرمین گمراہی اور دیوانگی میں پڑے ہوئے ہیں، جس دن وہ اپنے منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا: تم دوزخ میں جانے کے مزے چکھو۔“

(۳)۔ اور ایک دوسری جگہ فرمان الہی ہے: ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ

فَأَخْوَأْنَاكُمْ فِي الدِّينِ وَنَفَّضْنَا لِقَوْمٍ يَّعْلَمُونَ﴾ (۳)

ترجمہ: ”پس اگر (اب بھی) یہ لوگ توبہ کر لیں، اور نماز قائم کر لیں، اور زکاۃ دیں، تو یہ تمہارے دینی

(۱) سورة المدثر، آیت: ۳۸-۴۶.

(۲) سورة القمر، آیت: ۴۷-۴۸.

(۳) سورة التوبة، آیت: ۱۱.

بھائی ہیں، اور ہم اپنی آیات (نشانیوں) تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔“

غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کی اخوت کو مؤمنوں کے ساتھ نماز کے قیام اور اس کی ادائیگی کی شرط سے مربوط فرمایا۔

(۴) اسی طرح معروف صحابی حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو بیان کرتے ہوئے سنا: (بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشُّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ) (۱)

ترجمہ: ”ایک (مسلمان) شخص اور شرک و کفر کے درمیان صرف نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔“

(۵)۔ اور حضرت عبداللہ بن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (العَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ) (۲)

(۶)۔ حضرت عبداللہ بن شقیق رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: (كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ لَا يَرُونَ مِنَ الْأَعْمَالِ تَرْكُهُ كُفْرًا غَيْرَ الصَّلَاةِ) (۳)

(۱) صحیح مسلم، کتاب الإیمان، باب بیان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة.

(۲) سنن الترمذی، کتاب الإیمان، باب الحكم في تارك الصلاة - سنن ابن ماجہ، کتاب الإقامة، باب ما جاء فيمن ترك الصلاة - اس طرح حدیث کو امام حاکم نے بھی روایت کیا ہے، اور اسے صحیح قرار دیا ہے، اور امام ذہبی نے بھی امام حاکم کی اس میں موافقت کی ہے۔

(۳) سنن الترمذی، کتاب الإیمان، باب ما جاء في ترك الصلاة.

(۷)۔ اسی طرح (امت میں) بہت سے اہل علم نے تارک نماز کے کافر ہونے پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اجماع کو نقل کیا ہے۔ (۱)

(۸)۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نماز چھوڑنے والا شخص دس وجوہ کی بناء پر کفر اکبر کا مرتکب ہو جاتا ہے (۲)۔

(۹)۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے بائیس سے زیادہ دلائل کو ذکر کر کے یہ ثابت کیا ہے، کہ تارک نماز کفر اکبر کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ (۳)

الغرض ان صریح دلائل کی بناء پر کسی ادنیٰ شک کے بغیر یہی بات صحیح اور درست ثابت ہوتی ہے کہ تارک نماز مطلقاً کافر ہے (۴) (یعنی نماز نہ پڑھنے والا بہر حال کافر ہے، چاہے وہ اس کی فرضیت کا معترف ہو یا منکر)

(۱۰)۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں: (وَقَدْ دَلَّ عَلَيَّ كُفْرُ تَارِكِ الصَّلَاةِ : الْكِتَابُ ، وَالسُّنَّةُ ، وَإِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ) (۵)

(۱) دیکھیں: المحلی / ابن حزم: ۲/۲۴۲، ۲۴۳- کتاب الصلاة / ابن القیم، ص: ۲۶- الشرح المنع علی زاد المستنقع / محمد بن صالح العثیمین: ۲/۲۸.

(۲) دیکھیں: شرح العمدة / ابن تیمیہ: ۲/۸۱-۹۱.

(۳) دیکھیں: کتاب الصلاة / ابن القیم، ص: ۱۷-۲۶، ابن قیم رحمہ اللہ نے اس کتاب میں (تارک نماز کے کفر پر) دس دلیلیں قرآن کریم سے اور بارہ دلیلیں سنت مطہرہ اور اجماع صحابہ رضی اللہ عنہم سے نقل کر کے بیان ہیں۔

(۴) اور میں نے خود شیخ الامام عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ وقدس روحہ سے سنا کہ وہ تارک نماز کو کافر قرار دیتے تھے، اگرچہ وہ کبھی کبھی ہی چھوڑ دے، اور اس فرضیت انکار نہ بھی کریں۔ دیکھیں: تحفۃ الاخوان باجوبہ بہمتہ تتعلق بأركان الاسلام ص: ۷۲-۷۳.

(۵) کتاب الصلاة / ابن القیم، ص: ۷۱.



## نماز کی فضیلت

(۱)۔ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ﴾ (۱)

ترجمہ: ”جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی، اس کی تلاوت کیجیے، اور نماز قائم کیجیے، یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، اور بے شک اللہ کا ذکر کرنا بہت بڑی چیز ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔“

(۲)۔ نماز ہی شہادتین (کلمہ شہادت) کے بعد سب سے افضل ترین عمل ہے، اور اس بات کی دلیل حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا: (أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟) ”سب سے افضل عمل کون سا ہے؟“

قال: (الصَّلَاةُ لَوْ قُتِلَتْهَا) ”آپ ﷺ نے فرمایا: ”اپنے وقت پر نماز پڑھنا“

عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے پھر سوال کیا: (ثُمَّ أَيُّ؟) ”اس کے بعد کون سا (عمل افضل) ہے؟“ قال: (بِرُّ الْوَالِدَيْنِ) آپ ﷺ نے فرمایا: ”والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا“ (۲)

(۳)۔ نماز سے گناہ اور خطائیں دھل جاتی ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں

(۱) سورة العنكبوت، آیت: ۴۵.

(۲) متفق علیہ، صحیح البخاری، کتاب التوحید، باب وسمی النبی ﷺ عملاً—صحیح، کتاب الإیمان، باب کون الإیمان، باب کون الإیمان بالله تعالیٰ أفضل الأعمال.

کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ كَمَثَلِ نَهْرِ جَارٍ غَمْرٍ عَلَى بَابٍ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ) (۱)

ترجمہ: ”پانچوں نمازوں کی مثال ایک ایسی گہری بہتی نہر کی مانند ہے، جو تم میں سے کسی کے دروازے پر ہو، اور وہ ہر روز اس میں پانچ مرتبہ نہاتا ہو“۔

(۴)۔ نماز گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ فرمایا کرتے تھے: (الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكْفِرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنِبْتَ الْكَبَائِرَ) (۱)

(۴)۔ پانچ نمازیں، اور جمعہ جمعہ تک، اور رمضان رمضان تک ان گناہوں کا کفارہ ہو جاتے ہیں، جو ان کے درمیان میں سرزد ہوں، بشرطیکہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے۔“

(۵)۔ نماز نمازی کے لیے دنیا و آخرت میں نور ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، کہ ایک روز نبی ﷺ نے نماز کا تذکرہ کیا، اور فرمایا: (مَنْ حَافِظٌ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُورًا وَبُرْهَانًا وَنَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نُورٌ وَلَا بُرْهَانٌ وَلَا نَجَاةٌ، وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ، وَفِرْعَوْنَ، وَهَامَانَ، وَأَبِي بَنِي خَلْفٍ) (۲)

(۱) صحیح مسلم، کتاب الطہارۃ، باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مکفورات لما بینہن ما اجتنبت الكبائر.

(۲) مسند الإمام أحمد: ۲/۱۶۹، سنن الدارمی: ۲/۳۰۱، امام المنذری نے کتاب ”الترغیب والترہیب“ میں فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو جدید سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔

اور ابوما لک الاشعری رضی اللہ عنہ کی مروی روایت کے الفاظ ہیں، کہ آپ ﷺ نے فرمایا: (الصَّلَاةُ نُورٌ) (۱) یعنی ”نماز نور ہے“۔

جب کہ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں، کہ آپ ﷺ نے فرمایا: (بَشِّرِ الْمَشَائِينَ فِي الظُّلَمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّورِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (۲)  
ترجمہ: ”ان لوگوں کو بشارت اور خوشخبری دو، قیامت کے دن کامل نور کی، جو اندھیروں میں مسجدوں کی طرف چل چل کر آتے ہیں“۔

(۶)۔ نماز سے اللہ تعالیٰ درجات کو بلند فرماتا، اور خطاؤں کو مٹاتا ہے، اس کی دلیل رسول اللہ ﷺ کے (آزاد کردہ) غلام حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کی مروی وہ حدیث ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: (عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ ، فَإِنَّكَ لَا تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةٌ) (۳)

ترجمہ: تم کثرت کے ساتھ سجدے کیا کرو، کیونکہ تم ایک سجدہ بھی اللہ کے حضور کرو گے تو وہ اسکے بدلے

(۱) سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب ما جاء في المشي إلى الصلاة- سنن الترمذي كتاب الصلاة، باب ما جاء في فضل العشاء والفجر في الجماعة- اس حدیث کو علامہ ناصر الدین الالبانی نے ”مشكاة المصابيح“ میں (تحقیق کے دوران) بہت سے دوسرے شواہد بنا کر صحیح قرار دیا ہے۔

(۲) سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب ما جاء في المشي إلى الصلاة- سنن الترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء في فضل العشاء والفجر في الجماعة- اس حدیث کو علامہ ناصر الدین الالبانی نے ”مشكاة المصابيح“ میں (تحقیق کے دوران) بہت سے دوسرے شواہد بنا کر صحیح قرار دیا ہے۔

(۳) صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب فضل السجود والحث عليه.

تمہارا ایک درجہ بلند کرے گا، اور ایک گناہ معاف فرمائے گا۔“

(۷)۔ نماز ہی نبی حبیب ﷺ کی صحبت و رفاقت میں دخول جنت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، حضرت ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کہ میں رسول اللہ ﷺ کی معیت میں رات گزارتا، اور آپ کی خدمت میں وضوء کا پانی اور دیگر حاجت کی چیزیں لایا کرتا تھا، تو (ایک دفعہ) آپ ﷺ نے مجھ سے فرمایا: (سَلِّ) کسی چیز کی فرمائش کرو؟ (فَقُلْتُ: أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ) یعنی ”میں آپ سے جنت میں آپ کی رفاقت کا سوال کرتا ہوں“۔ (قَالَ: أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ) آپ ﷺ نے فرمایا: ”(ربیعہ) کیا کوئی اور فرمائش ہے؟“ (قُلْتُ: هُوَ ذَاكَ) میں نے عرض کیا: ”بس یہی ایک فرمائش ہے“ (قَالَ: فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ)۔ اس پر آپ ﷺ نے فرمایا: ”(ربیعہ! اس فرمائش کو پورا کروانے کے لیے) کثرت کے ساتھ سجدے کر کے میری مدد کرو“ (۱)

(۸)۔ نماز کے لیے چل کر جانے پر نیکیاں لکھی جاتی ہیں، درجات بلند کیے جاتے ہیں، اور خطائیں مٹا دی جاتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ، ثُمَّ مَشَى إِلَى بَيْتِ مَنْ بَيَّوتِ اللَّهُ، لِيَقْضِيَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ، كَانَتْ خُطُوتَاهُ إِحْدَاهُمَا تَحُطُّ خَطِيئَةً وَالْأُخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً) (۲)

ترجمہ: ”جس شخص نے اپنے گھر میں پاکی حاصل کی (یعنی وضوء کیا)، پھر اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے

(۱) صحیح مسلم، کتاب الصلاة، باب فضل السجود والحث عليه.

(۲) صحیح مسلم، کتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب المشي إلى الصلاة تمحي به الخطايا وترفع به الدرجات.

ایک گھر (یعنی مسجد) کی طرف چلا، تاکہ اللہ تعالیٰ کے فرضوں میں سے کوئی فرض ادا کرے، تو اس کے دونوں قدموں (کے چلنے کا) یہ حال ہے کہ ایک سے ایک گناہ مٹ جاتا ہے، اور دوسرے سے ایک درجہ بلند ہوتا ہے۔“

اور ایک دوسری حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں، کہ (آپ ﷺ نے فرمایا): إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، لَمْ يَرْفَعْ قَدَمَهُ الْيُمْنَى إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ حَسَنَةً..... (۱)

ترجمہ: ”جب تم میں سے کوئی شخص وضوء کر لیتا ہے، اور بالکل اچھی طرح کر لیتا ہے، پھر نماز کے لیے نکلتا ہے، تو جب وہ اپنا دایاں قدم اٹھاتا ہے تو اللہ عزوجل اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے، اور جب بائیں قدم اٹھاتا ہے، تو اللہ عزوجل اس کی غلطی معاف کر دیتا ہے.....“

(۹)۔ نماز کی وجہ سے نمازی کے لیے جنت میں ضیافت تیار کی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی ﷺ سے روایت کرتے ہیں، (کہ آپ ﷺ نے فرمایا): (مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ أَوْ رَاحَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ نُزُلًا كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ) (۲)

ترجمہ: ”جو شخص صبح یا شام کو مسجد گیا، تو اللہ تعالیٰ ہر صبح و شام اس کے بدلے جنت میں اس کی ضیافت تیار کرتا ہے۔“

(۱) سنن أبو داود، کتاب الصلاة، باب ما جاء في الهدى في المشي إلى الصلاة.

(۲) متفق عليه: صحيح بخاري، كتاب الأذان، باب فضل إلى المسجد أو راح - صحيح مسلم، كتاب

المساجد ومواضع الصلاة، باب المشي إلى الصلاة تمحى به الخطايا وترفع به الدرجات.

(۱۰)۔ اللہ تعالیٰ ایک نماز سے دوسری نماز تک سرزد ہونے والے گناہوں کو بخش دیتا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: (لَا يَتَوَضَّأُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِيْحَسْنِ الْوُضُوءِ، فَيُصَلِّي صَلَاةً إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ الَّتِي تَلِيهَا) (۱) ترجمہ: ”جو مسلمان وضوء کرتا ہے، اور اچھی طرح وضوء کرتا ہے، پھر نماز پڑھ لیتا ہے، تو اس نے وہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں، جو اس سے اس نماز سے لے کر دوسری نماز تک سرزد ہوتے ہیں۔“

(۱۱)۔ نماز پچھلے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، کہ میں رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: (مَا مِنْ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَحَضَّرَهُ صَلَاةٌ مَكْتُوبَةٌ، فَيُحْسِنُ وُضُوءَ هَا، وَخُشُوعَهَا، وَرُكُوعَهَا إِلَّا كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوبِ مَا لَمْ يَأْتْ كَبِيرَةً، وَذَلِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ) (۲)

ترجمہ: ”جو کوئی مسلمان فرض نماز کا وقت پائے، تو اس کے لیے اچھی طرح وضوء کرے، اور خشوع کے ساتھ (دل لگا کر) نماز ادا کرے، اور اچھی طرح رکوع (وتجود) کرے، تو یہ نماز اس کے پچھلے (صغیرہ) گناہوں کا کفارہ ہو جائے گی، بشرطیکہ کوئی کبیرہ گناہ نہ کر بیٹھے، اور یہی معاملہ اس (نمازی بندے) کے ساتھ عمر بھر ہوگا۔“

(۱۲)۔ نمازی کے لیے فرشتے تب تک دعا کرتے رہتے ہیں، جب تک وہ جائے نماز پر رہتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ایک آدمی کی جماعت سے نماز ادا

(۱) صحیح مسلم، کتاب الطہارۃ، باب فضل الوضوء والصلاة عقبہ.

(۲) صحیح مسلم، کتاب الطہارۃ، باب فضل الوضوء والصلاة عقبہ.

کرنا اس کے گھر اور بازار میں نماز پڑھنے سے بیس پر کئی درجے (ثواب کی زیادتی کے اعتبار سے) افضل ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص وضوء کرتا ہے، اور بالکل اچھی طرح وضوء کرتا ہے، پھر مسجد کی طرف آتا ہے، نماز کے سوا اس کا کوئی ارادہ ہوتا ہے، تو پھر وہ جو بھی قدم چلتا ہے تو اس کا ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے، اور ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے، اور جب وہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے، تو گویا وہ تب تک برابر نماز ہی میں ہے، جب تک نماز اس کو روکے رکھتی ہے (یعنی جب تک نماز کی وجہ سے وہ مسجد میں بیٹھا رہتا ہے) (اور پھر فرمایا):

وَالْمَلَائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَىٰ أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ يَقُولُونَ: ”اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ تَبَّ عَلَيْهِ، مَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ، مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ“ (۱)

ترجمہ: ”اور فرشتے برابر اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، جب تک وہ اس جگہ پر بیٹھا رہتا ہے جہاں اس نے نماز پڑھی ہے، فرشتے کہتے ہیں: ”یا اللہ! اس پر رحم فرما، یا اللہ! اس (کے گناہوں) کو بخش دے، یا اللہ! اس کی توبہ قبول فرما، اور فرشتوں کی یہ دعائیں اس کے حق میں تب تک جاری رہتی ہیں جب تک وہ وہاں ایذا نہیں دیتا، جب تک وہ حدت نہیں کرتا“ (یعنی جب تک اس کا وضوء نہیں ٹوٹتا)

(۱۳)۔ نماز کے لیے انتظار میں بیٹھنا (اجر کے اعتبار سے) اللہ کی راہ میں فاعی محاذ پر رہنے کے برابر ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟)

(۱) متفق علیہ، صحیح البخاری، کتاب البیوع، باب ما ذکر فی الأسواق - صحیح مسلم، کتاب المساجد، ومواضع الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة.

”کیا میں تم کو (اس عمل کے بارے میں) خبر نہ دوں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور درجات کو بلند فرماتا ہے؟۔“

(قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ!) ”صحابہ نے کہا: کیوں نہیں اے اللہ کے رسول! (بتلائیے)  
(قَالَ: إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانتِظَارُ الصَّلَاةِ  
بعد الصلاة، فذلکم الرباط) (۱)

آپ ﷺ نے فرمایا: ”سختی اور تکلیف (یعنی سرد موسم اور بیماری) میں کامل (اچھی طرح) وضوء کرنا، مسجدوں کی طرف جاتے ہوئے بہت زیادہ قدموں کا چلانا (یعنی بکثرت مسجد میں جانا)، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، اور یہی کام ”رباط“، یعنی محاذ جہاد پر مورچہ بند ہونا ہے۔“

(۱۴)۔ نماز کے لیے نکلنے والے نمازی کا اجر و ثواب احرام باندھے ہوئے حاجی کی طرح ہے، حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُتَطَهِّرًا إِلَى صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ، فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ، وَمَنْ خَرَجَ إِلَى تَسْبِيحِ الضُّحَى لَا يَنْصِبُهُ إِلَّا إِيَّاهُ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْمُعْتَمِرِ، وَصَلَاةٌ عَلَىٰ إِثْرِ صَلَاةٍ لَا لَعْوَ بَيْنَهُمَا كِتَابٌ فِي عِلِّيِّينَ)  
(۲)

ترجمہ: ”جو شخص اپنے گھر سے پاک ہو کر (وضوء کر کے) فرض نماز کے لیے نکلتا ہے، تو اس کا اجر و

(۱) صحیح مسلم، کتاب الطہارۃ، باب فضل إسباغ الوضوء علی المکارہ.

(۲) سنن أبي داود، کتاب الصلاة، باب ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس

حدیث کو صحیح کہا ہے، دیکھیں: صحیح ابوداؤد: ۱۱۱/۱، اور صحیح الترغیب: ۱۲۷/۱۔



ثواب ایسے ہے جیسے کہ حاجی احرام باندھے ہوئے آئے، اور جو شخص ”تسبیح ضحیٰ“ (۱) یعنی چاشت کی نماز کے لیے نکلے، اور اس کے کھڑے ہونے اور مشقت اٹھانے کی غرض صرف یہی نماز ہو، تو اس شخص کا اجر و ثواب عمرہ کرنے والے کی مانند ہے۔ اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز، جب ان دونوں کے درمیان کوئی لغو (بیہودگی) نہ ہو، علیین (ابرار کے اعمال کے دیوان) میں اندراج کا باعث ہے“

(۱۵)۔ جو شخص نماز کی غرض سے نکلتا ہے، مگر دیکھتا ہے کہ مسجد میں نماز ہو چکی ہے، تو اس کو برابر جماعت کا ثواب مل جاتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

(مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ رَاحَ فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا، أَعْطَاهُ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - مِثْلَ أَجْرِ مَنْ صَلَّاهَا وَحَصَرَهَا، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَجْرِهِمْ شَيْئًا) (۲)

ترجمہ: ”جس شخص نے وضوء کیا، اور کامل طریقے پر وضوء کیا، پھر (مسجد کو) گیا، پر (مسجد پہنچ کر) دیکھا کہ لوگ نماز پڑھ چکے ہیں، تو اللہ - عز و جل - اس بندے کو بالکل اتنا ہی اجر عنایت فرماتا ہے، جتنا کہ اس شخص کو جس نے جماعت میں حاضر ہو کر نماز پڑھی ہے، اور یہ شخص ان کے اجر و ثواب میں کسی کمی کا باعث بھی نہیں ہوتا“۔

(۱۶)۔ جو شخص پاک و صاف ہو کر نماز کے لیے نکلتا ہے، تو گویا وہ تب تک برابر نماز کی حالت میں ہے،

(۱) تسبیح الضحیٰ، یعنی چاشت کی نماز۔ اور ہر وہ نماز جو بندہ نفل کے طور پر ادا کرے، اسے تسبیح اور سبحہ کہا جاتا ہے، دیکھیں الترغیب والترہیب رالمندری: ۲۹۲/۱۔

(۲) سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب فيمن خرج يريد الصلاة فسبق بها، علامه البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، دیکھیں: صحیح سنن أبي داود: ۱۱۳/۱۔

یہاں تک کہ وہ واپس لوٹ آتا ہے، اور اس میں اس کا آنا اور جانا بھی لکھا جاتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہ رسول اللہ نے فرمایا: (إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ، كَانَ فِي صَلَاةٍ حَتَّى يَرْجِعَ فَلَا يَقُلُ: هَكَذَا— وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ) (۱) ترجمہ: ”جب تم میں کسی شخص نے اپنے گھر پر وضوء کیا، پھر مسجد میں آیا، تو وہ (اجر و ثواب کے اعتبار سے) برابر تب تک نماز میں ہے، یہاں تک کہ وہ واپس لوٹ آئے، لیکن وہ ایسا نہ کریں۔ اور رسول اللہ ﷺ نے اپنی (دو ہاتھ کی) انگلیوں کو ملا دیا۔ (یعنی آپ ﷺ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کو یہ سمجھا دیا، کہ وہ (نمازی) مسجد میں قیام کے دوران اپنی انگلیاں نہ ملا دے)۔

اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی ایک اور حدیث۔ مرفوعاً۔ آپ ﷺ سے روایت کرتے ہیں: (مَنْ حِينَ يَخْرُجُ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنْزِلِهِ إِلَى مَسْجِدِي، فَرَجُلٌ تَكْتَبُ حَسَنَةً وَرَجُلٌ تَحْطُ سَيِّئَةً حَتَّى يَرْجِعَ) (۲)

(۱) صحیح ابن خزيمة: ۲۲۹/۱۔ اور امام حاکم نے اسے مستدرک میں لایا ہے، اور اسے صحیح قرار دیا ہے، اور امام ذہبی نے بھی ان کی (امام حاکم کی) موافقت کی ہے، دیکھیں: ۱۰۶/۱، اسی طرح امام البانی رحمہ اللہ نے بھی اسے صحیح الترغیب والترہیب میں صحیح کہا ہے، دیکھیں: ۱۱۸/۱۔

(۲) صحیح ابن حبان، حدیث نمبر: ۱۶۲۰، سنن النسائی: ۴۲۲۲، اور امام ذہبی نے اسے مستدرک میں لایا ہے، اور اسے صحیح قرار دیا ہے، اور امام ذہبی نے امام ذہبی نے امام حاکم کی موافقت کی ہے (یعنی ذہبی نے بھی اسے صحیح قرار دیا ہے) شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی اسے صحیح الترغیب میں یہ کہہ کر صحیح کہا ہے: (وهو كما قالوا) یعنی یہ حدیث بالکل صحیح ہے، جیسا کہ امام حاکم اور امام ذہبی نے کہا ہے، دیکھیں: صحیح الترغیب (مع تحقیق البانی) ۱۲۱/۱۶۔ اسی طرح صحیح الترغیب والترہیب میں اور دوسری احادیث مبارکہ کو بھی دیکھیں، جو اس امر پر بھی دلالت کرتی ہیں کہ جو شخص گھر سے پاک و پاکیزہ ہو کر مسجد کی طرف نکلتا ہے، تو وہ تب تک

ترجمہ: ”جس وقت تم میں سے کوئی شخص اپنے گھر سے میری مسجد کی طرف نکلتا ہے، تو ایک قدم پر اس کی ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور ایک قدم پر ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے، اور یہ سلسلہ تب تک جاری رہتا ہے، جب تک وہ (مسجد سے) واپس لوٹ آتا ہے“۔

حالت نماز ہی میں رہتا ہے، جب تک وہ اپنے گھر کی طرف واپس نہیں لوٹتا۔ (دیکھیں، صحیح الترغیب والترہیب تحقیق شیخ البانی: